



9	שָׂאוֹ אֲנְהָאוּ	אֲשַׁעְרִים	רְאִשֵׁיכֶם	וְשָׂאוֹ	בְּתַחֲתֵי	עוֹלָם	אֵיבָא	מֶלֶךְ	הַכְּבוֹד:
	أنهاؤ	دروازو	اپنے-سر	اور-أنهاؤ	پھاٹکو	ابدی	اور-آئے	بادشاہ	جلال-کا
	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H6607</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H3519</a>

جائے۔ ہو داخل بادشاہ کا جلال تاکہ جاؤ کھل پر طور پورے دروازو، قدیم اے جاؤ! کھل پھاٹکو، اے

10	מִי	הוּא	זֶה	מֶלֶךְ	הַכְּבוֹד	יְהוָה	צְבָאוֹת	הוּא	מֶלֶךְ	הַכְּבוֹד	סִלָּה:
	کون	وہ	یہ	بادشاہ	جلال-کا	یہوواہ	لشکروں-کا	وہ	بادشاہ	جلال-کا	سیلاہ
	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H3519</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H3519</a>	<a href="#">H5542</a>

(سیلاہ) ہے۔ بادشاہ کا جلال وہی الافواج، رب ہے؟ کون بادشاہ کا جلال